

ویکسین لگوانا آپ کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کے خاندان اور دوستوں کو بھی تحفظ دے سکتا ہے۔
Johnson & Johnson/Janssen ویکسین ایک اڈینو وائرس ویکٹر ویکسین ہے۔ یہ اس طرح کام کرتی ہے:

Johnson & Johnson COVID-19 ویکسین کس طرح کام کرتی ہے

1. ہدایات

ایک بے ضرر اڈینو وائرس (عام زکام کا ایک وائرس جس کو اس طرح تبدیل کیا گیا ہے کہ اس کی افزائش نہ ہو اور نہ ہی یہ بیماری کا سبب بنے) آپ کے جسم میں COVID-19 کا سبب بننے والے وائرس کے جین کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے۔ اس جین کو سپائیک پروٹین تیار کرنے کے لیے ہدایات ملتی ہیں جو کہ COVID-19 کا سبب بننے والے وائرس میں پایا جاتا ہے۔



2. تیاری

آپ کا جسم سپائیک پروٹین بناتا ہے لیکن وائرس نہیں بناتا۔ تیار کردہ پروٹین آپ کے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔

3. دفاع

اگر COVID-19 کا سبب بننے والا وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اینٹی باڈیز وائرس کو پہچان لیں گی اور اس سے لڑ کر آپ کو بیمار ہونے سے محفوظ رکھیں گی۔



Johnson & Johnson Vaccine ویکسین کے حقائق

- اڈینو وائرس کی افزائش نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔
- ویکسین میں COVID-19 کا سبب بننے والا وائرس نہیں ہوتا ہے۔
- آپ کو ویکسین سے COVID-19 نہیں ہو سکتا۔
- ویکسین آپ کا DNA نہیں تبدیل کر سکتی۔

- Johnson & Johnson COVID-19 ویکسین وسیع پیمانے پر طبی مطالعوں سے گزری ہے جن کا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (Food and Drug Administration, FDA) اور دیگر ماہرین نے جائزہ لیا ہے۔ یہ ویکسین لوگوں کو COVID-19 کی شدید بیماری، اسپتال میں داخلے اور موت سے بچانے میں محفوظ اور بہت موثر دیکھی گئی ہے۔

ویکسین لگوانے کی سائٹ تلاش کرنے اور اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، nyc.gov/vaccinefinder ملاحظہ کریں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔

COVID-19 ویکسینوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں، nyc.gov/covidvaccine ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

